

لاگت کے اشتراک سے بچت کے بارے میں حقائق

لاگت کم کریں اور پیسہ اپنی جیب میں رکھیں

لاگت کے اشتراک سے بچت کیا ہے؟

لاگت کے اشتراک سے آپ کے ہیلتھ پلان میں آپ کی اپنی جیب سے کم پیسے جاتے ہیں (قابل منہائی، مشترکہ ادائیگیاں اور مشترکہ انشورینس) اس سے آپ کا پریمیم کم نہیں ہوتا۔ آپ یہ سب کچھ صرف *Washington Healthplanfinder* سے حاصل کر سکتے ہیں۔

لاگت کے اشتراک سے، میں بچت کیسے حاصل کروں؟

آپ اپنی آمدنی کی بنیاد پر لاگت کے اشتراک سے بچت حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی آمدنی جتنی کم ہو گی، آپ اتنی ہی زیادہ بچت حاصل کریں گے۔ لاگت کے اشتراک سے بچت حاصل کرنے کے لیے آپ کو 'سلور پلان' میں سائن اپ کرنا ہو گا۔

اگر ضرورت ہو، تو معاونت حاصل کریں

ہمارا کسٹمر سپورٹ سنٹر سوالات کے جواب دے سکتا ہے اور آپ کو آپ کے علاقے کے ماہر سے جوڑ سکتا ہے۔

ہمیں کال کریں

1-855-923-4633



ہمیں وزٹ کریں:

wahealthplanfinder.org



WAPlanfinder

ایپ ڈاؤن لوڈ کریں



لاگت کے اشتراک سے بچت کیسے ہوتی ہے؟

وہ آپ کی قابل منہائی رقم کو کم کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی کٹوتی کم ہو گی، تو آپ کا ہیلتھ پلان جلد ہی لاگت کا اشتراک شروع کر دے گا۔

وہ آپ کی مشترکہ ادائیگیاں اور مشترکہ انشورینس کم کر دیں گے۔ جب آپ کو کورڈ سروس ملتی ہے، تو آپ مشترکہ ادائیگیاں اور مشترکہ انشورینس ادا کرتے ہیں۔ لاگت کے اشتراک سے یہ رقوم کم ہو جاتی ہیں۔

وہ آپ کی جیب سے نکلنے والی رقم کو زیادہ سے زیادہ حد تک کم کر دیتے ہیں۔ آپ کی جیب سے نکلنے والی زیادہ سے زیادہ رقم، جو آپ ایک سال میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، تو احاطہ شدہ خدمات پر آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔